



نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ایچ بی ایل پی ایس ایل کی ٹرافی جہانگیر خان لائیں گے

- ٹرافی کی تقریب رونمائی 19 فروری بروز بدھ کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہوگی
- ٹرافی 65 سینٹی میٹر لمبی اور 8 کلوگرام وزنی ہے
- ایچ بی ایل پی ایس ایل کے ہر ایڈیشن میں اب یہی ٹرافی استعمال ہوگی
- ایچ بی ایل پی ایس ایل ٹرافی کی تقریب رونمائی میں شرکت کرنا میرے لیے ایک غیر معمولی لمحہ ہوگا، جہانگیر خان
- جہانگیر خان کا ایچ بی ایل پی ایس ایل کی ٹرافی تھامنا بھی اعزاز ہے، وسیم خان

کراچی، 16 فروری، 2020ء:

ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ کی ٹرافی کی تقریب رونمائی پاکستان میں ہوگی۔ پاکستان اور اسکواش کی دنیا کے سب سے کامیاب کھلاڑی جہانگیر خان ایچ بی ایل پی ایس ایل کی چمچماتی ٹرافی تھامے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی پہنچیں گے۔ ٹرافی کی تقریب رونمائی 19 فروری بروز بدھ کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہوگی۔

اسکواش کی دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے جہانگیر خان ایونٹ کی ٹرافی تھامے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں داخل ہوں گے۔ وہ یہ ٹرافی دفاعی کپتان سرفراز احمد کے حوالے کریں گے۔ تقریب کے دوران سرفراز احمد ٹرافی چیئرمین پی سی بی احسان مانی کے حوالے کریں گے جو تمام فرنچائز مالکان اور کپتانوں کے ہمراہ ٹرافی کی باقاعدہ رونمائی کریں گے۔

ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 کی ٹرافی یو کے کی ایک کمپنی اوٹ ول سلور اسمٹس نے تیار کی ہے۔ ٹرافی کے اوپر نصب ایک چاند اور سہ جہتی ستارہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ 65 سینٹی میٹر لمبی ٹرافی کاکل وزن 8 کلوگرام ہے۔ چمچماتی ٹرافی کے گرد مخصوص رنگ بھی نمایاں ہیں۔

رواں سال متعارف کروائی جانے والی ایچ بی ایل پی ایس ایل ٹرافی اب آئندہ تمام ایونٹ کے لیے مستقل رہے گی اور ہر سال ایونٹ جیتنے والی ٹیم کا نام اس ٹرافی پر درج کر دیا جائے گا۔

ٹرافی کی تقریب رونمائی 19 جنوری بروز بدھ سہ پہر ساڑھے تین بجے ہوگی۔

جہانگیر خان:

اسکواش کی دنیا کے بے تاج بادشاہ جہانگیر خان کا کہنا ہے کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل ٹرافی کی تقریب رونمائی میں شرکت کرنا ایک غیر معمولی لمحہ ہوگا اور وہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں۔

جہانگیر خان نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے شاندار انداز میں ملک میں اعلیٰ سطحی کرکٹ کی سرگرمیاں بحال کیں، ان سرگرمیوں کے ذریعے دنیا کے سامنے پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ کھیلوں کے میدان آباد ہونے سے دنیا کو پیغام ملے گا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔

جہانگیر خان نے کہا کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل کے کامیاب انعقاد سے ملک میں دیگر کھیلوں کی سرگرمیاں بھی بحال ہوں گی، انہیں امید ہے کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل فائینو، گذشتہ چند دہائیوں سے ملک میں کھیلوں کے بین الاقوامی مقابلوں کی سرگرمیاں بحال کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔

ایجنڈری کھلاڑی نے کہا کہ وہ ایونٹ کے کامیاب انعقاد کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل شائقین کرکٹ کو کھیل سے محظوظ ہونے کا موقع فراہم کرے گی۔

جہانگیر خان کو اسکواش کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے۔ 17 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ برٹش اوپن ٹائٹل جیتنے والے جہانگیر خان نے مجموعی طور پر 6 مرتبہ عالمی ٹائٹل اپنے نام کیے۔ جہانگیر خان مسلسل 555 مقابلے جیتنے والا منفرد ریکارڈ بھی اپنے نام رکھتے ہیں۔

وسیم خان، چیف ایگزیکٹو پی سی بی:

چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان کا کہنا ہے کہ جہانگیر خان جیسے نامور اسپورٹس مین کی جانب سے ایچ بی ایل پی ایس ایل کی ٹرافی تھامے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں آنا اس ٹرافی کے لیے بھی اعزاز ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تقریب کا حصہ بننے پر جہانگیر خان

کے بہت مشکور ہیں۔

وسیم خان نے کہا کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل بالآخر واپس پاکستان آچکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی لیگ ہے اور جلد یہ دنیا کی سب سے بہترین ٹی ٹوٹی لیگ بن جائے گی۔

ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 بیس فروری سے بائیس مارچ تک کراچی، لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں کھیلی جائے گی۔ ایونٹ کا پہلا میچ دفاعی چیمپئن کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کراچی میں جبکہ فائنل لاہور میں کھیلا جائے گا۔

لیگ کے لیے ٹکٹوں کی آن لائن بکنگ www.yayvo.com پر دستیاب ہے جبکہ شائقین کرکٹ ٹی سی ایس کے ایکسپریس سنٹرز سے بھی ٹکٹ خرید سکتے ہیں۔
- ENDS -

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

Partners



www.psl-t20.com @thePSL20 @thePSL PakistanSuperLeague @thepsi
PCB Headquarters
Gaddafi Stadium,
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4